

Psa

Chapter 75

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְמִנְצַח	אֵל-	תְּשַׁחֲת	מִזְמוֹר	לְאֶסְרָה	שִׁיר:	הוֹדִינוּ	וְלָךְ	אֱלֹהִים
	ل-موسیقی-کے-سالار	مت	تباہ-کر	زبور	ل-آساف	گیت	شکر-کرتے-ہیں-ہم	تجھے	خدا
	H5329	H0516	H0516	H4210	H0623		H3034		H0430
	הוֹדִינוּ	וְקָרֹב	שְׁמִיךְ	סִפְרוּ	נִפְלְאוֹתֶיךָ:				
	شکر-کرتے-ہیں-ہم	اور-قریب	تیرا-نام	بیان-کرتے-ہیں	تیرے-عجائب				
	H3034	H7138	H8034		H6381				

ہیں کرتے بیان معجزے تیرے جو بے قریب کے اُن نام تیرا شکر! تیرا ہو، شکر تیرا اللہ، اے کر۔ نہ تباہ طرز: لے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا آسف

2	כִּי	אֶקַח	מוֹעֵד	אֲנִי	מִישְׁרִים	אֶשְׁפֹּט:			
	کیونکہ	لوں-گا-میں	مقررہ-وقت	میں	صداقت-سے	عدالت-کروں-گا			
		H3947	H4150	H0589	H4339	H8199			

گا۔ کروں عدالت سے انصاف میں تو گا اُتے وقت میرا ۱۱ جب ہے، فرماتا اللہ

3	נִמְזִים	אֶרְצִן	וְכָל-	יִשְׁבִּיחַ	אֲנָכִי	תִּכְנֹתַי	עֲמוּדֵיךָ	סֶלָה:	
	پگھانے-والے	زمین	اور-سب	اُس-کے-باشندے	میں	مضبوط-کرتا-ہوں	اُس-کے-ستون	بیلادہ	
	H4127	H0776	H3605	H3427	H0595	H8505	H5982	H5542	

(بیلادہ) ہے۔ دیا کر مضبوط کو ستونوں کے اُس نے ہی میں لیکن لگے، ڈگمگانے سمیت باشندوں اپنے زمین گو

4	אֲמַרְתִּי	לְהוֹלִלִים	אֵל-	תִּהְיוּ	וְלִרְשָׁעִים	אֵל-	תְּרִימוּ	קָרוֹן:	
	کہا-میں-نے	ل-فخر-کرنے-والوں	مت	فخر-کرو	اور-ل-شریروں	مت	اُنھاؤ	سینگ	
	H0559		H0408		H7563	H0408			

کرو۔ مت فخر پر آپ ۱۱ اپنے سے، بے دینوں اور مارو، ۱۱ مت ۱۱ ڈینگیں کہا، نے میں سے بازوں شیخی

5	אֵל-	תְּרִימוּ	לְמַרוֹם	קַרְנֵיכֶם	הַדְּבָרוֹ	בְּצִוְאָר	עֲתָק:		
	مت	اُنھاؤ	ل-بلندی	تمہارا-سینگ	بولو	ب-گردن	اکڑ-کر		
	H0408		H4791		H1696		H6277		

بکو ۱۱۔ ۱۱ کفر کر اکڑ نہ مارو، شیخی پر طاقت اپنی نہ

6	כִּי	לֹא	מִמּוֹצֵא	וּמִמְעַרְב	וְלֹא	מִמְדְּבָר	הָרִים:		
	کیونکہ	نہیں	من-مشرق	اور-من-مغرب	اور-نہیں	من-صحرا	پہاڑ		
		H3808	H4161	H4628	H3808				

بے آتی سے بیابان نہ اور سے مغرب نہ سے، مشرق نہ سرفرازی کیونکہ

7	כִּי-	אֱלֹהִים	שִׁפֹּט	זֶה	יִשְׁפִּיל	זֶה	יָרִים:		
	کیونکہ	خدا	منصف	اس	پست-کرتا-ہے	اور-اس	بلند-کرتا-ہے		
		H0430	H8199	H2088	H8213	H2088			

سرفراز کو دوسرے اور بے دیتا کر پست کو ایک وہی ہے۔ منصف جو سے اللہ بلکہ

